

برامپٹن سٹی ہال میں 20 اور 21 اکتوبر اور 17 اور 18 نومبر کو صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے اضافی اوقات کار

برامپٹن، آن (15 اکتوبر 2020) – سٹی نے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے اپنے پراپرٹی ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے درج ذیل تاریخوں پر سٹی ہال کے اوقات کار بڑھا دیے ہیں:

- منگل، 20 اکتوبر
- بدھ، 21 اکتوبر
- منگل، 17 نومبر
- بدھ، 18 نومبر

توسیع شدہ اوقات کار صبح 8:30 تا رات 8 ہوں گے۔ سٹی ہال میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے، رہائشیوں کو پہلے سے [سٹی آف برامپٹن کی ویب سائٹ](#) پر اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہو گی۔

پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی آخری تاریخیں [یہاں](#) پائی جا سکتی ہیں۔

رہائشیوں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ موقع پر سٹی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے سٹی کی سہولت گاہوں میں آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹس ضروری ہیں۔ فوراً آ کر خدمات کے حصول کی اجازت نہیں ہے۔ اپوائنٹمنٹس کو [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر بک، ان کا وقت تبدیل اور منسوخ کیا جا سکتا ہے۔

[پراپرٹی ٹیکسز](#) کی ادائیگی کے لیے کئی متبادل محفوظ اور آسان طریقے بھی موجود ہیں:

- کسی بینک یا دیگر مالیاتی ادارے میں
- اقتصادی اداروں کے ذریعے انٹرنیٹ/ٹیلیفون بینکاری
- چیک
- ٹیکس کی ادائیگی کا پیشگی طور پر مجاز شدہ پلان

مزید معلومات کے لیے، www.brampton.ca ملاحظہ کریں

اس مہینے کے آغاز میں، سٹی کونسل نے آخری تاریخ کے بعد تمام واجب الادا پراپرٹی ٹیکس ادائیگیوں پر تمام سود اور جرمانوں کو 31 دسمبر تک معطل کرنے کی [منظوری](#) دے دی، تاکہ رہائشیوں اور کاروباروں کو اس مشکل وقت میں اضافی معاشی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس وقت موجود کسی بھی واجب الادا بیلنس پر جرمانے اور سود سے بچنے کے لیے، سٹی کو تمام ادائیگیاں 31 دسمبر سے پہلے موصول ہو جانی چاہئیں۔

اپوائنٹمنٹس بک کرنے یا پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگیوں کے حوالے سے کسی قسم کے سوالات کے لیے، براہ کرم 24/7 معاونت حاصل کرنے کے لیے 311 پر کال کریں یا 311@brampton.ca پر ای میل کریں۔